

مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی

M.Sc.Mathematics

II Semester Exams : September 2021

MSMM201DST : Complex Analysis

Total Time : 3 hrs

Total Marks : 70

ہدایات:

یہ پرچہ سوالات دھصوں پر مشتمل ہے: حصہ اول اور حصہ دوم۔ ہر جواب کے لیے لفظوں کی تعداد اشارہ ہے۔ تمام حصوں سے سوالوں کا جواب دینا لازمی ہے۔

1. حصہ اول میں 10 سوالات ہیں، اس میں سے طالب علم کو کوئی 8 سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ہر سوال کا جواب تقریباً سو (100) لفظوں پر مشتمل ہے۔ ہر سوال کے لیے 05 نمبرات مختص ہیں۔ ($8 \times 5 = 40$ Marks)
2. حصہ دوم میں 05 سوالات ہیں۔ اس میں سے طالب علم کو کوئی 03 سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ہر سوال کا جواب تقریباً دو سو پچاس (250) لفظوں پر مشتمل ہے۔ ہر سوال کے لیے 10 نمبرات مختص ہیں۔ ($3 \times 10 = 30$ Marks)

حصہ اول

$$\lim_{z \rightarrow 2e^{\pi i/3}} \frac{z^3 + 8}{z^4 + 4z^2 + 16} \text{ کو اخذ (Evaluate) کرو۔} \quad .1$$

کوشی ریمان مساویں (Cauchy-Riemann equations) کو پولار شکل (polar form) میں حاصل کرو۔ .2

بتاؤ کہ $f(z) = xy + iy$ ہر جگہ analytic ہے لیکن $f(z)$ کو اخذ (Evaluate) کرو۔ .3

$$\int_0^{1+i} z^2 dz \text{ کو اخذ (Evaluate) کرو۔} \quad .4$$

$\int_{|z|=3} e^{2z} dz$ کو اخذ (Evaluate) کرو۔ فرمولے کے استعمال سے Cauchy Integral .5

کو بیان اور ثابت کرو۔ Maximum Modulus Theorem .6

کوشی رسید یو تھیورم (Cauchy's Residue Theorem) کو بیان اور ثابت کرو۔ .7

کو بیان اور ثابت کرو۔ sufficient condition کی conformat mapping کے $w = f(z)$ کو بیان کرو۔ .8

کو نقطہ $z = \infty, i, 0$ کو نقطہ $w = 0, i, \infty$ میں نقش کرتا ہے۔ Bilinear transformation .9

استعمال (image) میں لامدد پڑی (infinite strip) کا عکس (image) معلوم کرو۔ $w = \frac{1}{z}$ (transformation) .10

حصہ دوم

analytic function اور $u(x, y) = e^x (x \cos y - y \sin x)$ تب جلاو کہ harmonic u ہو .11

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y) \quad \text{معلوم کرو۔}$$

Taylor's Theorem کویان اور ثابت کرو۔ .12

$$-(\text{Evaluate}) \int_0^\pi \frac{ad\theta}{(a^2 + \sin^2 \theta)}, \quad (a > 0) \quad .13$$

$$(\text{Evaluate}) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x \sin \pi x}{x^2 + 2x + 5} dx \quad .14$$

$$\text{Normal form اور fixed points معلوم کرو۔} \quad w = \frac{3z - 4}{z - 1} \quad (\text{i}) \quad .15$$

(image) کے $-\pi/2 < \operatorname{Re}(z) < \pi/2$ میں لامدد پڑھیں (infinite strip) (ii) استعمال $w = \sin z$ (transformation) معلوم کرو۔

☆☆☆